

ROOTWORDS OF SURAH AL ZUKHRUF 36-89

يَغِيثُ	نُقَيْضٌ	قَرِينٌ	مُنْتَقِمُونَ	فَاسْتَمْسِكْ	يَضْحَكُونَ
ع ش و	ق ي ض	ق ر ن	ن ق م	م س ك	ض ح ك
غافل ہوتا ہے	ہم مسلط کر دیتے ہیں	ساتھی	ہم انتقام لینے والے ہیں	پھر آپ مضبوطی سے پکڑیں	ہنسی کرنے لگے
يَنْكُتُونَ	مُقْتَرِنِينَ	فَاسْتَخَفَّ	أَسْفُونَا	سَأَفَا	يَصِدُّونَ
ن ك ث	ق ر ن	خ ف ف	أ س ف	س ل ف	ص د د
عہد کو توڑ دیتے	باندھے ہوئے آئے ہوتے	احتمق بنا دیا پس اس نے	ہمیں غصہ دلادیا	گئے گزرے	چلا اٹھے
خَصِمُونَ	يَصُدُّنَكُمْ	الْأَجْلَاءُ	نُحْبِرُونَ	بِصِحَافٍ	أَكْوَابٍ
خ ص م	ص د د	خ ل ل	ح ب ر	ص ح ف	ك و ب
بھگڑالو	ہرگز تم کو روک دے	تمام دوست	تمہیں عزت و احترام دیا جائے گا	رکابیاں	پیالے
تَشْتَهِيهِ	تَلْدُ	يَفْتَنُ	مُتَلَبِّسُونَ	مَا كُتُونَ	أَبْرُهُمْ أَمْ مُمْرِمُونَ
ش ہ و	ل ذ ذ	ف ت ر	ب ل س	م ك ث	ب ر م
چاہے گا	خوش ہوں گی	پاکا کیا جائے گا	ماپوس پڑے رہیں گے	ہمیشہ رہو گے	ٹھرانے والے ہیں
	يَصِفُونَ	يَخُوضُوا	يَلْعَبُوا	فَاصْنَعِ	
	و ص ف	خ و ض	ل ع ب	ص ف ح	
	وہ بیان کرتے ہیں	شغل	کھیل کود	پس آپ درگزر کرو	